

Appeal No. 1292/2014.
Mr. Faqir Ali


20.02.2015

Appellant deposited process fee
& security



Counsel for the appellant and Asst: AG for the respondents present. Preliminary arguments heard and case file perused. Through the instant appeal under Section-4 of the Khyber Pakhtunkhwa Service Tribunal Act 1974, the appellant has impugned order dated 13.06.2014, vide which the major penalty of reduction/reversion from rank of Head Constable to Constable has been imposed upon the appellant. Against the above referred impugned order appellant filed departmental appeal which was also turned down on 14.10.2014, hence the instant appeal on 30.10.2014. He further argued that the SHO of the said Police Station was also punished on same legation and was awarded punishment reduction/revision from rank of SI to ASI. The appellate authority on the departmental appeal of the SHO, set aside the punishment order of SHO and punishment of reduction was converted into minor punishment of forfeiture of one year approved service and as such the appellant has been discriminated.

Points raised at the Bar need consideration. The appeal is admitted to regular hearing subject to all legal objections. The appellant is directed to deposit the security amount and process fee within 10 days. Thereafter, Notices be issued to the respondents. To come up for written reply/comments on 09.04.2015.


Member



09.04.2015

Counsel for the appellant and Asstt: AG for the respondents present. Learned counsel for the appellant filed an application for withdrawal of the instant appeal. Application is allowed and the instant appeal is dismissed as withdrawn. File be consigned to the record.

ANNOUNCED
09.04.2015


Member

BEFORE THE
SERVICE TRIBUNAL, KPK, PESHAWAR

Service Appeal 1292 /2014

Faqir Ali, Contable No. 369, Police Line Daggar, District Bunner
_____ (Appellant)

V E R S U S


The Inspector General of Police, KPK, Peshawar and others
_____ (Respondents)

INDEX

S. No.	Documents	Annexure	Page No.
1	Appeal along with Affidavit		1-5
2	Copy of the FIR	A	6
3	Copy of reply dated 28.03.2014	B	7
4	Copy of finding report	C	8-10
5	Copy of punishment order dated 13.06.2014	D	11
6	Copy of the departmental appeal	E	12-13
7	Copy of impugned order dated 14.10.204	F	14
8	Copy of relevant rules	G	15-16
9	Copy of order dated 01.07.2014	H	17
9	Wakalat Nama		18

Appellant

Through


Javed Ali Mohammadzai
Advocate, High Court,
Peshawar

Dated: 29.10.2014

①

BEFORE THE
SERVICE TRIBUNAL, KPK, PESHAWAR

Service Appeal 1292 /2014

Faqir Ali, Contable No. 369, Police Line Daggar, District Buner

(Appellant)

V E R S U S

W.P. Peshawar
1323
30-10-2014

- 1) The Inspector General of Police, KPK, Peshawar
- 2) Regional Police Officer, Malakand at Saidu Sharif, Swat
- 3) District Police Officer, Buner
- 4) DSP Headquarter, Buner

(Respondents)

Appeal Under Section 4 of KPK Service Tribunal Act, against the order No. 8357/E dated 14.10.2014 of the Regional Police Officer, Malakand Region / respondent No. 2, whereby the departmental appeal of the appellant against the punishment order No. OB-62 dated 13.06.2014 was rejected.

Prayer:

30/10/14

On acceptance of instant appeal the impugned order dated 14.10.2014 as well as punishment order dated 13.06.2014 may kindly be set aside and the previous original Rank (Head Constable) of the appellant may also be restored with all back benefits.

Respectfully Sheweth,

Facts giving rise to the instant appeal are as below:

1. That the appellant was appointed as Constable in Police Department on 02.02.2012 and subsequently promoted to rank of Head Constable on merit due to his hard working.
2. That on 28.08.2013, the appellant was transferred and posted as MHC Police Station Changlai, District Buner.
3. That the appellant performed his duty as such to the entire satisfaction of his superiors and never provided a single opportunity of complaint to his superiors.
4. That on 18.02.2014 the ASI Mr. Mukamil shah Khan arrested a person namely Malak Zai and recovered 32 grams of opium from his possession. On the receipt of Murasla from said ASI, the appellant duly registered Criminal Case vide FIR No. 108 dated 18.02.2014 against the accused person. (Copy of the FIR is annexed as Annexure A)
5. That on 25.03.2014, the appellant along with the then SHO Mr. Bakht Farin Shah was charged sheet for allegation „

“During the posting of the appellant as MHC Police Station Changlai, the sale / business of narcotics was continued in jurisdiction of PS Changlai, but the appellant has not informed his high-ups about the selling of narcotics”.



6. That on 28.03.2014, the appellant submitted his reply to the charge sheet No. 110/EC dated 25.03.2013 and duly explained his position. (Copy of reply dated 28.03.2014 is attached as Annexure B)
7. That thereafter DSP Head Quarter / respondent No. 4 as Enquiry officer (E.O) conducted enquiry in the matter, and submitted his finding report with ^{his} ~~his~~ recommendation of awarding appropriate penalty to the appellant, to the DPO Buner / respondent No. 3. (Copy of finding report is annexed as Annexure C)
8. That being so, the DPO Bunner / respondent No. 3 vide order No. OB No. 62 dated 13.06.014 awarded major punishment of reduction / reversion from rank Head Constable to Constable to the appellant. (Copy of punishment order dated 13.06.2014 is annexed as Annexure D)
9. That being aggrieved from the punishment order dated 13.06.2014, the appellant immediately preferred a departmental appeal against the same before the Regional Police Officer, Malakand / respondent No. 2. (Copy of the departmental appeal is attached as Annexure E)
10. That on 14.10.2014 the appellate authority without any good reasons rejected the departmental appeal of the appellant, hence this appeal on the following grounds. (Copy of impugned order dated 14.10.2014 is attached as Annexure F)

GROUNDS

- a) That the impugned order dated 14.10.2014 as well as punishment order dated 13.06.2014 are illegal, against the law and rules on subject.
- b) That the appellant has been condemned unheard and all the proceedings of enquiry was conducted at back of the appellant and as such the appellant was deprived of his legal and constitutional right of cross examination.
- c) That the impugned orders are passed in sheer violation KPK (Efficiency and Discipline) Rules, 1973, as the authorized officer has been totally bypassed and ignored in matter in hand.
- d) That the duty and responsibility ^{of} MHC/Clerk of Police station is duly described in chapter 22 of Police Rules 1934. The appellant as MHC has fully performed his duty in term of Chapter 22 of Police Rules. (Copy of relevant rules are attached as Annexure G)
- e) That the SHO of Police Station was also punished on same legations and was awarded punishment reduction / revision from rank of SI to ASI. The appellate authority on the departmental appeal of the SHO, set aside the punishment order of SHO and punishment ^{of} reduction was converted into minor punishment of forfeiture of one year approved service. And as such the appellant has been discriminated. Copy order dated 1 $\frac{7}{2014}$ is attached as (H)

5

It is, therefore, humbly prayed that on acceptance of instant appeal the impugned order dated 14.10.2014 as well as punishment order dated 13.06.2014 may kindly be set aside and the previous original Rank (Head Constable) of the appellant may also be restored with all back benefits.


Appellant


Through


Javed Ali Mohammadzai
Advocate, High Court,
Peshawar

Dated: 29.10.2014

AFFIDAVIT

I, Faqir Ali, do hereby solemnly affirm and declare on Oath that the contents of instant appeal are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed from this Honourable Court.


DEPONENT

ATTESTED

30/10/14

جناب عالی

خواہ جاریہ سہ ماہی 110/4c جاریہ جناب 10/04 کو سز معروض خدمت پر آگے ہیں

25-3-2014

مورخہ 28/03 سے ہیئتے حور قمانہ صنعتی کمپنیاں تھا۔ دورانی کمپنیاں جناب 110/4 سے

جدایت پر سہ ماہی نو برس ملازمتی میں سے تین کمپنیاں کو بغرض اطلاق کیا، جدائم کی

انسداد کینیا مار سفید بار حیات ہی صنعتی کے مکروہ دھندہ، جدائم سہ ماہی افراد کی نگرانی،

دہشت گرد طاقتوں کی سرگرمیوں یا دیگر خلاف قانونی افعال میں ملوث افراد کے

خلاف بروقت اطلاعیاتی کی جدایت کی گئی تھی۔

علاوہ ان میں بازار صنعتی میں ہیئتے کے علاوہ علاقہ قمانہ صنعتی کو بیٹوں میں

تقسیم کرتے بازار صنعتی میں ہیئتے انسر بھی بازار کی نگرانی وغیرہ کیلئے مامور ہوتا ہے۔

ہیئتے حور بطابق پولیس رولسز باب 22، 4، 5، 6، 7 کیساتھ ساتھ بطابق پولیس رولز

22-8 قمانہ میں موجودگی سے فرانس میں شمار تھا۔ جبکہ بازار کی ڈیوٹی سفید بار حیات

ہیئتے کمپنیاں اور ہیئتے انسر ان کے ذمہ داری کے زمرہ میں آتا ہے۔ ہیئتے حور

انسر ان کی طرف سے خواہ عوام کی شکل میں ہو یا زبانی رپورٹوں پر بروقت کارروائی

کر چکا ہوں۔ اپنے بالاتر انسر کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دین چکایوں

اسی روز یعنی 28/03 کو مراسم حور ہو کر شروع ہوئے اور ان کے ملزم ملک کے زمرہ مقدم 108

پر 10/4 درجہ رجسٹر کر چکایوں۔ مذہب اگر خفیہ ہے تیار اس کے خلاف ہی ہیئتے حور

کارروائی کر لیتا۔ میں نے اپنے فرانس میں آجی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی ہے۔

اسذا اسد ماہیہ جاریہ ہیئتے کو بغیر کسی کارروائی داخل دفتر کرنے کا حکم

مہار فرمائی جاوے تاہم دعا کر رہی ہوں

فقیر علی 369 HC

Heppu Daggol 20.3.2014

Attested

فائیڈنگ رپورٹ

حوالہ چارج شیٹ نمبر E/110 مورخہ 25/3/75 جاریہ دفتر ضابطہ ڈی ای ڈی اور صاحب

بنام فقیر سی MHC 369 تھانہ چنگڑی حال پولیس اسٹیشن ڈگر

ضابطہ عالی

غرض یہیکہ دستاویزہ چارج شیٹ نمبر E/110 مورخہ 25/3/75 مع
سٹیشن آف الیکشن بنام فقیر سی MHC 369 جنکی دفتر ہذا میں بعض
انڈیکسری موضوعوں پر مکرر مطالبہ سوئی فقیر سی HLC 369 پر اس نام یہیکہ معلقہ
تھانہ چنگڑی میں منتسبات کا دہندہ جاری ہے جو قدرے اس بارے میں اطلاع
یا رپورٹ کد میں کارروائی نہیں چھوٹی ہے کیونکہ قواعد (iii) پولیس ڈیولوشن 1975
کے تحت قلمدانہ کارروائی کی جائے۔

فقیر سی HLC 369 سابقہ تھانہ چنگڑی حال پولیس انڈیکسری کے سلسلے
میں طلبہ سو کر جب کا بیان قلمدانہ کیا گیا تو یہاں یہیکہ وہ مورخہ 28/8/75 کو بحیثیت
تھانہ چنگڑی کے منتسبات کیا گیا تھا اور ان کے منتسباتی سب پورٹ SHO میں انفرسٹیل
فورس ایکٹو کارڈز سفید مارجنات میں دستاویزہ پیشہ افراد کے خلاف اطلاعات فراہم
کرنے کی ہدایت کی تھی جس کے علاوہ پیشہ افراد بھی مامور کیا گیا تھا۔ بحیثیت تحریر تصانیف
کے دوران قواعد کے مطابق تھانہ کے دفتر احسانیت حافظ دفتر سیدہ ارجان
گورنمنٹ ہفت روزہ SHO کے عہدہ موجودگی میں 22-8 کے ختم ہونے کے بعد
اور ساتھ ساتھ انفرسٹیل بالاً صاحبان کے جانب سے موصول شدہ شکایات کی تعمیل
کے حوالے سے بھی وقت کے منتسبات کے دہندہ میں علوش رہنے کے بارے میں
کئی بار اسے اطلاع میں دی تھی اور نہ ہی شکایت موصول ہوئی تھی اور نہ ہی بارہ
اپنے آریکو سے گناہ ظاہر کرتا ہے۔

آئی ایس ایس
Ahsant

سابقہ SHO تھانہ چنگڑی بحیثیت ریٹائرڈ شاہ لہی کے بیان کی تائید
کے لئے لکھ کر رہا ہے۔

مورخہ 3/4/75 کو صدر انڈیکسری کے خاطر تھانہ چنگڑی جا کر ہفت روزہ 28/8/75 مورخہ
8/7/75 جس میں 4/7/75 تھانہ چنگڑی کے مطالعہ سے پوری جان میں حکم شاہ ASI کے اس قدر تحریر ہے
میں اسلئے یہ کہ دوران پیدل گشت حسب اطلاع خیر حلیم ملک شاہ ولد رائی پور
سائنس چنگڑی بازار کی کھانہ تلاتی ہے۔ اس میں لا کر حلیم کے قلمدانہ کی بحالی جیپ

ایس
سی
زور
کھا
ت
ن
ہا

سے افیون برآمد کر کے وزن کرنے پر 32 گرام باغی جو بیرونی فرد قبضہ کر کے ملزم کو سپر
ٹرکب جرم گرفتار کر کے ملزم کے خلاف مقدمہ کیا جا کر بعد فحشیتوں عدالت میں
پیش کر کے پر ملزم قبضہ/500 روپے سیرفانہ کا سزا یا پے پوچھا ہے۔

ملزم ملک زب مذکورہ کے سابقہ ریکارڈ چیک کرنے پر ملزم بمقدمہ
غلس 24 مورخ 1/21 جرم 33/SS 33 قاتلہ طوطا کی قبضہ/250 روپے جروانہ کا سزا یا ملزم
پے دیگر مذکورہ کے متعلق تھانہ طوطا کی ریکارڈ تھانہ سیکھلی کی ریکارڈ خانہ نوشاہی مذکورہ تھانہ
جات کے تحریر کی سرٹیفیکیشن سمراف لکھ میں۔

سابقہ SHO محنت فریق شاہ کے سرحدہ لعلیانی میں فحشیتوں MHL کی شبلی تعینات
تھا اس دوران کینلان سلطان حکم بد SP، نعمان علی (SP) اور قند اسرار 30
کارخاص ڈیوٹی پر تعینات تھے جنکو طلب کر کے بیانات قلمند سے لے جنہوں نے واضح کیا
کہ انہوں نے ملزم مدد شری کے متعلق فحشیتوں کا دھڑہ کرنے کے بارے کسی قسم کی
اطلاع یا رپورٹ SHO / محنت فریق شاہ کو نہیں دی تھی۔

تفصیل شاہ ASI بیٹ اغور بازار چھٹی بیانی ہے کہ سابقہ SHO قاتلہ جنجلی
محنت فریق شاہ نمان نے بیٹ اغور ان کو تالیف ہدایت کی تھی کہ ایک قانونی دھڑہ
کرنے والوں کے ساتھ کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے ملزم ملک زب کے کا بار چھٹی کے
میں کرمانہ کی دکان ہے اور پینسار بھی ہے لیکن اسے سابقہ SHO محنت فریق شاہ نے
یا محنت فریق شری 369 کو یہ علم نہ تھی کہ وہ فحشیتوں فروخت کرنے میں ملوث ہے۔

موجودہ SHO نور الازہری نے سب بیانی جنجلی جنجلی لعلیانی اشیا میں
پیش کیے جنکے بیانات قلمند سے لے اور گزیب ولد عبداللہ خان لعلیانی جنجلی
بیانی نے اختیار علی ولد محبتی آسان نقلو جی پی ایٹی۔ 3 محمد اسرار ولد قندوزیر
لعلیانی جماعت اسلامی 4 محنت فریق شاہ ولد سمندر خان ممبر لوکس کمیونٹی فورم
5 محنت فریق شاہ ولد عبدالغفور کورڈینٹر ڈیوٹی کے بیانات قلمند سے لے
اختیار علی نے اپنے بیان میں واضح کیا کہ ملک زب نے پینسار کے پیشہ
جنجلی جنجلی کے فحشیتوں کا کاروبار کرنا ہے لیکن پیش شدہ اشیا میں
بھی اس آئندہ کی تائید نہیں کی کہ سابقہ فحشیتوں محنت فریق شاہ جنجلی
کو ملزم کے فحشیتوں کا کاروبار کرنے کا علم تھا جو اس بار ملک گسان

369 کو ملزم کے فحشیتوں کو بے گناہ قرار دینے ہے
فحشیتوں 369 اور دیگر ایڈیٹرز لوکس کمیونٹی فورم
انکوٹری انکوٹری اور انکوٹری پر خلاف سابقہ 369 محنت فریق
کے سلسلہ میں ملک زب مذکورہ کے بارے میں گناہ کیا اور اسکا بیان قلمند کیا گیا

انکوٹری
A Hestel

جوہر
ہے کیا
کے
امکان
اشیا
ن
روپہ
30
SP
کے
اشیا
بلایا

سالی ہیکہ آسکا بازار چنگلی میں کرانہ کا ڈکان ہے اور ساتھ ہی بعض اور ایسے لوہا سیر
 وغیرہ کا علاج کرتا ہے لوہا سیر کے علاج میں افیون کا بھی استعمال ہوتا ہے لیکن
 مدد کے علاج کے خاطر افیون خود دیا کرتا ہے بروز و قوسم وہ اپنے ڈکان میں موجود
 تھا تقریباً سہ ہر وہیلہ دو اشخاص اسے مگنی نامعلوم اسکے ڈکان جا کر ان سے کہنا
 کہ انکے والد کو لوہا سیر کی شکایت ہے علاج معالجہ کے خاطر افیون کا وہ سہولت کرتے
 کیونکہ وہ دور کے باشندے ہیں اور یہاں کسی کے ساتھ جان پہچان نہیں لھذا ملک
 نے ایک طاقتور کا علاج معالجہ کے خاطر رائے پوٹے قدر افیون ان دو اشخاص
 کو دینا چاہا اور ان پر واضح کیا کہ ایک دو روز میں اس قدر عیوض میں افیون
 دیا کرے تاکہ مدد کے خاطر افیون کی دوائی فائز نہ ہو ان اشخاص نے دس ہزار روپہ
 حساب سے نکال کر ان کو افیون دیا کرنے کیلئے پیش کیے اور ملک نے نے عیوض
 طاقتور کی پھر ان اشخاص نے دو ہزار روپہ دیا کر دہ افیون کے خاطر پیش کیے
 لیکن ملک نے نے انکار کر کے کہا کہ وہ خود مدد عیوض کا کام میں کرتا اسی اثنا
 میں تندرہ شخص وہاں پہنچ کر اسکی سلاشی کی افیون ہر آمد کے اور اسکے خلاف
 مقدمہ قائم کر کے گرفتار کیا۔

قلمند شدہ بیانات سے پایا گیا کہ سالہ 369 قمری خانہ چنگلی
 کے کھنڈی کے دوران جہانم پستہ افسر کے متعلق اطلاعات اور رپورٹیں دیا کرنے
 کیلئے سفید پارچات میں تین کٹ لائن ڈیوٹی پر مامور کیے گئے تھے جنہوں نے ملک نے کا
 منشیات کا کاروبار کرنے کے بارے اطلاعات نہیں دئے ہیں تاہم ملک نے نے اپنے بیان میں
 قلم کیا ہے کہ وہ لوہا سیر کے علاج معالجہ کیلئے افیون استعمال میں لاتی ہے اور اسی طرح
 کھنڈی و کھنڈی آمان ساکن ونگلی کے بیان سے بھی واضح ہے کہ ملک نے نے منشیات کے خرید
 فروخت کا کام کرتا ہے اور سو میں رپورٹ کے مطابق قی خانہ تندرہ سے چند قدم کے فاصلہ
 پر ملک نے مذکورہ منشیات کی خرید فروخت کا کاروبار کرتا ہے اور قمری خانہ کا
 لایم ہونا بعید از عقل ہے اور اگر قمری خانہ کے قلم ہے تب بھی قمری خانہ سے لایم ہونے کے
 ضمن میں آتا ہے۔

Attest
 [Signature]

محمد اکبر اتحاق پو کو قمری خانہ 369 سالہ قمری خانہ چنگلی کو مناسبت
 HL

سزا دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔
 ڈی ایچ پی ہیڈ کوارٹر
 09. 4. 2014

Requested in Rank
 [Signature]
 12/6/14

O R.
 [Signature]
 D.P.O. Bewar.

11

Ann - D


ORDER

This order will disposed off departmental enquiry conducted by DSP / HQr: against HC Faqir Ali No. 369 the then MHC PS Chinglai regarding the narcotic sealing in the jurisdiction of PS Chinglai during his posting but he was not submitted any information in this regard, vide this office No. 111/E, dated 25.03.2014.

On 09.04.2014 the EO submitted his finding with the conclusion that three constables in plain cloth were deputed in the light of source report regarding the sealing of narcotics as a result of which one Malak Zai was found involved in the business of narcotics but the concerned MHC was no knowledge about it which shows negligence in his part and as such the EO recommended his name for appropriate punishment.


I **Asif Iqbal Mohmand** DPO Buner competent authority agree with the recommendation of EO and award minor punishment to HC Faqir Ali No. 369 i.e reduction of rank under Para 4(B)(I) under Police Rules 1975 on account of his negligence with immediate effect. He is re-instated in service form the date of his suspension i.e 19.02.2014.


Ordered announced.


District Police Officer,
Buner.

OB No. 62
Dated 13/06/2014.

Attested


District Police Officer
Buner


Attested

12

Ann - E

APPELLATE JURISDICTION

To:-

The Regional Police Officer,
Malakand Region at Saidu Sharif Swat.

Subject: - **DEPARTMENTAL APPEAL AGAINST THE ORDER OF DISTRICT POLICE OFFICER, BUNER OB, 62 DATED 13.06.2014 WHERE BY THE APPELLANT WAS AWARDED MAJOR PUNISHMENT OF REDUCTION/ REVERSION FROM RANK OF HC TO CONSTABLE.**

Respected Sir,

The appellant respectfully submits as under:-

FACTS:-

1. That the Appellant was appointed as constable on 02.02.2012 and subsequently promoted to Rank of Head Constable.
2. That during long service of about 12 years the appellant performed official duties with full spirit, devotion and enthusiasm.
3. That while I was posted as MHC of PS Chinglai District Buner 32 Gram Opium was recovered from one Malak Zai and case FIR was registered. The District Police Officer was displeased that I did not inform high ups regarding drug peddlers and narcotics sale.
4. Though the contraband (Narcotics) measuring 32 Gram were recovered on the direction of District Police Officer, Buner the appellant was unaware of the suspected activities of the accused. Neither I was informed by the personnel deployed in field nor was the act of the accused came into knowledge of the appellant.
5. That the appellant has always been a custodian of public office Govt: property and trust assigned. I have always been obeying the orders of the high-ups and comply direction with in time.
6. That District Police Officer, Buner was informed through some source regarding possession of 32 Gram opium with the accused therefore, the District Police Officer, Buner was displeased that why did I not inform my and high-ups take action against the accused.
7. That the appellant was charge sheeted, statement of allegation was issued and departmental inquiry was conducted by the DSP HQs: Buner. The E.O submitted his finding report with the conclusion that appropriate penalty be awarded to the appellant.
8. The District Police officer did not considered my reply to show cause as satisfactory and I was awarded major punishment of the reduction in rank from head constable to constable vide OB No 62 dated 13/6/2014.
9. That the appellant aggrieved from the order of respected district police officer, Buner hereby file he instant departmental appeal inter- alia on the following ground.

[Signature]
Attested

GROUND:-

- a. That the appellant was not informed by field Police official/ Officers posted in PS Chinglai regarding possession of opium by the accused.
- b. That the whole departmental proceeding is based on presumption. Action taken against the appellant is violation of rules on the subject.
- c. That departmental enquiry was conducted against the appellant and the E.O was unable to prove guilt of the appellant.
- d. That the appellant has not been treated an accordance with Law/ Rules relating terms and condition of service.
- e. That the appellant has never been found involved in backing Narcotic smuggler and dealers therefore, the E.O was too unable to prove the guilt of the appellant.
- f. That the appellant has been condemn unheard. The appellant has not been associated with the enquiry proceeding.
- g. That provision of Police Rules and other laws have been violated, and no proper departmental enquiry was conducted.
- h. That no opportunity of personal hearing was provided to the appellant, nor was the departmental proceedings based on Law/Rules.
- i. That the punishment awarded the appellant is harsh and does not commensurate with the principles of natural justices.

PRAYER:-

In view of the above Facts and Grounds it is very respectfully prayed from your good- self that order of District Police Officer, Buner O.B. No. 62 dated 13.06.2014 may be set aside and the appellant may be re-instated in his original previous rank i.e Head Constable with all benefits.

Enclosed (Copy of OB No.62)

APPELLANT

**EX-HC Faqir Ali
Now Constable District Police Line,
Daggar, Buner.**

Dated. / /2014

Attested

14

Am - (F)



**OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND
REGION, AT SAIDU SHARIF SWAT**

ORDER:

This order will dispose off appeal of Ex-Head Constable Faqir Ali No 369 of Buner District for restoration of rank.

Brief facts of the case are that the above named Ex-Constable while posted as MHC Police Station Chinglai, the sealing of narcotics was continued in his jurisdiction of Police Station Chinglai but he was not informed his high-ups regarding the sealing of narcotics. As per source report 03 Constables in plain cloth were deputed for search of the same as a result of which one Malakzai was found involved in sealing of narcotics. Proper departmental enquiry was conducted by DSP/Hqrs: against the defaulter Ex-Head Constable Faqir Ali No. 369. The Enquiry Officer in his finding report recommended the name of defaulter Ex-Head Constable for appropriate punishment. On 12/06/2014 he was heard in person by District Police Officer, Buner but his reply was found unsatisfactory and awarded him major punishment of reduction of rank vide DPO/ Buner office OB No. 62 dated 13/06/2014.

He was called in Orderly Room on 28/08/2014 and heard in person, perused the Enquiry File and also examined statement of the Enquiry Officer. But he did not produce any substantive materials in his defense. Therefore I uphold the order of District Police Officer, Buner, whereby the appellant has been awarded punishment of reduction of rank. His appeal is rejected.

Order announced

(Signature)
(ABDULLAH KHAN) PSP
Regional Police Officer,
Malakand at Saidu Sharif Swat
Naqi

No. 8357 /E.

Dated 14/10/2014.

Copy District Police Officer, Buner for information and necessary action with reference to his office Memo: No. 14167/E, dated 10/07/2014.

EC/OPM
(Signature)
DPO BUNER

Attested

(Signature)
District Police Officer
Buner

(Signature)
Attested

OFFICE OF THE REGIONAL POLICE OFFICER, MALAKAND REGION, AT SAIDU SHARIF SWAT

ORDER:

Buner District.

This order will dispose off departmental appeal of ASI Bakht Farin Shah of

Brief is that, during the posting of the appellant (Ex-SI Bakht Farin Shah now ASI) as SHO Police Station Chinglai, the sale of narcotics was continued in the jurisdiction of his Police Station, but he did not take any legal action against the sellers of narcotics and ~~did not~~ ^{may} not brought the same into the notice of District Police Officer, Buner. On 18/02/2014 during the night patrolling the Police party received information regarding the selling of narcotics in a shop. The Police party search the said shop and recovered 32 grams chars run and maintained by one Malak Zia S/o Rani Zai R/o Chinglai. A proper case vide FTR No. 108 dated 18/02/2014 U/S 4PO Police Station Chinglai was registered. He was proceeded against departmentally. The Enquiry Officer submitted findings with the conclusion that during the course of enquiry no evidence or proof was reported against the defaulter Ex-SI/Applicant. Being a Station House Officer he was required to be aware about his jurisdiction, recommended him for minor punishment. He was heard in person in orderly room by District Police Officer, Buner but his reply was not found satisfactory. The District Police Officer, Buner being not satisfied with the recommendation of Enquiry Officer and awarded him major punishment i.e reduction of rank vide Para No. 4 (b) (i) under NWFP Police Rules 1975 on amount of negligence / irresponsibility vide his office QB No. 42, dated 23/04/2014.

He was called in Orderly Room on 26/06/2014 and heard him in person. The order of District Police Officer, Buner is too harsh and is not based on justice. Therefore, keeping in view 37 years service of the appellant, a lenient view is taken, order of District Police Officer, Buner is set aside and he is awarded minor punishment of forfeiture of one year approved service.

Order announced.

Signature
(ABDULLAH KHAN) PSP
Regional Police Officer,
Malakand, Saidu Sharif Swat
Naqi

No. 5442 /E,

Dated 01-07 /2014.

Copy for information and necessary action to the:-


- ① Worthy Provincial Police Officer, Khyber Pakhtunkhwa, Peshawar.
- 2. District Police Officer, Buner.

Sub W
Attested

OB/EC
[Signature]
DPO/BUNER.

OB/EC
[Signature]
01-07-2014

بعدالت سرسٹریٹس فیڈریشن کو



ایڈوانس	2014ء پنجاب	29 اکتوبر	موزخہ
فقیر علی	بنام	فقیر علی بنام	مقدمہ
	رئیس ضلع لوہاں		دعوی
			جرم

پاعت تحریر آنگہ

مقدمہ مندرجہ عنوان بالا میں اپنی طرف سے واسطے پیروی و جواب دہی وکل کارروائی متعلقہ
 آن مقام لکھنؤ کیلئے چاوری علی محمد قری اور وکیل لکھنؤ
 مقرر کر کے اقرار کیا جاتا ہے۔ کہ صاحب موصوف کو مقدمہ کی کارروائی کا کامل اختیار ہوگا۔ نیز
 وکیل صاحب کو راضی نامہ کرنے و تقرر ثالثتہ فیصلہ برحلف دیئے جواب دہی اور اقبال دعوی اور
 بصورت ڈگری کرنے اجراء اور وصولی چیک ورد پیسار عرضی دعوی اور درخواست ہر قسم کی تصدیق
 زرا این پر دستخط کرانے کا اختیار ہوگا۔ نیز صورت عدم پیروی یا ڈگری یکطرفہ یا اپیل کی برآمدگی اور منسوخی
 نیز دائر کرنے اپیل نگرانی و نظر ثانی و پیروی کرنے کا اختیار ہوگا۔ از بصورت ضرورت مقدمہ مذکور
 کے کل یا جزوی کارروائی کے واسطے اور وکیل یا مختار قانونی کو اپنے ہمراہ یا اپنے بجائے تقرر کا اختیار
 ہوگا۔ اور صاحب مقرر شدہ کو بھی دہی جملہ مذکورہ بالا اختیارات حاصل ہوں گے اور اس کا ساختہ
 پرواختہ منظور قبول ہوگا۔ دوران مقدمہ میں جو خرچہ دہر جان التوائے مقدمہ کے سبب سے ہوگا۔
 کوئی تاریخ پیشی مقام درہ پر ہو یا حد سے باہر ہو تو وکیل صاحب پابند ہوں گے۔ کہ پیروی
 مذکور کریں۔ لہذا وکالت نامہ لکھدیا کہ سند ہے۔

المرقوم 29 ناہ اکتوبر 2014

ایڈوانس فقیر علی

Attested & accepted Ali

کے لئے منظور ہے۔

لکھنؤ

بمقام

Before the Service Tribunal VPK, Peshawar

Appeal No 1292/14.

Faqir Ali vs Govt

Application for permission to withdraw above cited appeal:

R/s: 1, That the above cited appeal is fixed for today before this Honorable Tribunal.

2 That the appellant is not interested in the above mentioned appeal & want to withdraw the same, as the grievances of the appellant has been redressed departmentally.

It is, therefore, prayed that the appellant may be allowed to withdraw the cited above appeal.

Dated 9th / 2015

Muhammad

9/4/15

Appellant

through Adv.

Javid Ali Muhammad Zar
Advocate Pesh.